

۱۹ درودِ رفاعی

یہ درود حضرت سید احمد کبیر رفاعیؒ کا ہے اور انہوں نے اسے اپنی کتاب
المعارف المحمدیہ میں لکھا ہے آپ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور

اسی بنا پر آپ کو قطب زمان کا بلند مقام حاصل ہوا آپ نے اس درود پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ درود اسرار دروز اور معرفت حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے جو شخص اسے روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے گا اس کے ایمان میں استقامت پیدا ہوگی اور وہ دنیا سے صاحب ایمان جانے گا یعنی اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اسے کثرت سے پڑھتا رہے تو اسے سعادت عظمیٰ حاصل ہوگی اور اس کی ہر دعا فوراً مستجاب ہوگی دوسوں برائیوں اور مصیبتوں سے نجات ملے گی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔

ذیل کا درود ۴ دن تک بلا ناغہ ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے انسان تمام بڑی مادتوں اور گنہوں سے پرچ جانے کا اور پڑھنے والے کو اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا کرے گا۔ اس درود پاک کا ایک اور فائدہ یہ ہے اسے پڑھنے سے سکون اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں خوب دل لگنے لگتا ہے اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی خواہش رکھتا ہو مگر حج کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ہر جمعرات کو ۱۰۰ مرتبہ یہ درود پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرے اور گیارہ جمعرات تک اسی طرح کرے اللہ اس کا بہتر فریضے سے سبب بنا دے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے
 اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی نُوْرِكَ الْاَسْبِقِ وَ
 اے اللہ درود و سلام اور برکت فرما اپنے نور اولین پر اور
 صراطك المحقق من ابرس ثمة رحمة شاملة
 صراط تیرا اپنے ثابت پر جس کو تو نے ظاہر کیا ہے رحمت جو شامل ہے

لِوَجُوْدِكَ وَاكْرَمَتِهِ بِشَهُوْدِكَ وَاصْطَفِيَّتِهِ

تیرے وجود کو، اور عزت دی تو نے اپنے شہود کی اور جن لیا تو نے ان کو

لِنُبُوْتِكَ وَرِسَالَتِكَ وَاَرْسَلْتَهُ بِشِيْرٍ اَوْ ذِيْرٍ اَوْ

اپنی نبوت سے اور رسالت سے اور بھیجا تو نے ان کو بشارت دینے والا اور

وَدَاعِيًا اِلَيْكَ بِاَذْنِكَ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا نَقْطَةً

نشانے والا اور بلانے والا تیری طرف تیرے اذن سے اور چراغ روشن نقطہ

مَرْكَزٍ بَاءِ الدَّائِرَةِ الْاَوْْلِيَّةِ وَسِرَاسِرِ الْاَلْفِ

مرکز باء دائرہ اولیہ کا اور سیراسیر الف

الْقُطْبِيَّةِ الَّذِي فَتَقَتْ بِهِ وَثِقَ الْوُجُوْدُ

کے بھیدوں کا جس نے کھول دیا اس سے بندش وجود کی اور

خَصَّصْتَهُ بِاَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ الْمَوْهَبِ

خاص کیا تو نے ان کو بہترین مقامات سے عطا ئے احسان

الْاِمْتِنَانِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَاَقْسَمْتَ بِحَيٰوَتِهِ

اور مقام محمود اور قسم ذکر کی تو نے

فِيْ كَلَامِكَ الْمَشْهُوْدِ لِاَهْلِ الْكَشْفِ وَالشُّهُوْدِ

آپ کی زندگی کی اپنی کلام میں جس کی گواہی دیتے ہیں اہل کشف اور شہود

فَهُوَ سِرُّكَ الْقَدِيْمُ السَّارِيْ وَمَاءُ جَوْهَرِ الْجَوْهَرِيَّةِ

پس وہ تیرے قدیم سراپت کرنے والے بھید ہیں اور پانی جوہریت کے جوہر کا

الْجَارِي الَّذِي اَحْيَيْتَ بِهِ الْمَوْجُوْدَاتِ مِنْ

جو جاری ہے جس سے زندہ کیا تو نے موجودات کو چاہے وہ معدنی

مَعْدِنَ وَحَيَوَانَ وَنَبَاتٍ فَهُوَ قَلْبُ الْقُلُوبِ

ہوں ، حیوانی ہوں ، نباتی ہوں پس وہ دلوں کے دل

وَرُوحَ الْأَرْوَاحِ وَعِلْمَ الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ

اور روحوں کی روح علامت ہیں کلمات طیبات کی

الْقَلَمِ الْأَعْلَى وَالْعَرْشِ الْمَحِيْطِ رُوحَ جَسَدِ

قلم اعلیٰ اور عرش محیط روح کونین

الْكُوْنَيْنِ وَبِرُزْخِ الْبَحْرَيْنِ وَثَانِي اثْنَيْنِ وَ

کے جسم کی اور برزخ دونوں سمندروں کا اور دو کا دوسرا اور

فَخِرَ الْكُوْنَيْنِ أَبُو الْقَاسِمِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ

فخر کونین کے ابو القاسم سردار ہمارے محمد بن

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَ

عبد اللہ بن عبد المطلب میرے بندے اور نبی اور

رَسُولُكَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

رسول نبی امی اور آپ کی آل اور صحابہ پر اور سلام ہو

تَسْلِيمًا بِقَدْرِ عَظَمَتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ

بقدر تیری ذات کی عظمت کے ہر وقت اور آن میں پاکی

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ

ہے تیرے رب ، رب العزت کی اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو

الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سب رسولوں پر اور سب تعریف واسطے کے جو پالنے والا جہانوں کا ہے